

بلازرو باشکه از نظری گرفتار شد و سوچکان عالم نمود. او رئی فروداران من حبک پس از اتفاقی پرستی خواسته بود که از حضرت شیخ الشیوخ ابو عمر شهاب الدین سهروردی قادری در حرمہ الله کا آخوند تها ائمجه طلاقات هوی. او حضرت شیخ الکبری الدین ابن حییی حجۃ القلۃ کا بھی اخیر نادم تها که داشتین ائمۃ طلاقتی بیوی اوسید بیان الدین محقق توزی کی نمایندگی را جو لاما جا کر آمدی اور استاد او را ابتدا می خواسته بود که میری شیخ صلح الدین زر کو حضن شد بعد وصال حضرت شمس اللہ بن تبریزی کی میل تک صحبت گردید اور سوچنی خلفه ارشید شیخ الکبری موصوف سے سالہا سال تک که نیزین مخصوصاً تعلقات حضرت سوچنی از جنائز کی نماز پڑھانی کیلئے تلویحی اونچی کو صیت فرما کی تھی اسکی علاوه شیخ بہاء الدین ذکر یا المساںی اور فخر الدین علیقی سے بھی اتفاق طلاقات کا ہوا جو شیخ اشیعی موصوف او کمال الدین جنبدی را پیچے دادا پیر کر خانہ اسی میں ہے اور پوچھی شاهزادن شرف قلندر سیمی جو مدحکت آنکی خدمتیں سیمی ہر کو شیخ ابو سعید غزالی صفت حرب انجام اور شیخ خود اندر خوبی و شیخ سیمین مفری اور شیخ صلح الدین سعدی شیرازی سیمی آپ کی طلاقات ثابت ہو ہوتا ہے ایک بھائی جو درود کو کر شیخ نے ایک دل کی طلاقات کیلئے مکات و مکات سفر کیا تکنین مناقب العارفین من نہایت وضاحت کیا تھی شیخ کو سفر کا حال کہا ہو کہ شمس اللہ بن بادشاہ والی شیراز کو شیخ کو شیخ کو سوچنی سوچنی کی خیال میں نہیں بنتا ہے پر جو شیخ اور پر اسکے بادشاہ میں کی خیال کیتے کیلئے سمع کر مجاہد منع قد کر تھے اور شیخ سعدی کو تھا افضل میش بہادر کو سفر کیں ملک دام شہر قنبر، وادی کیا تھا دو غزل کو بعض شعارات ہیں۔

قرآن از عشق رسید از حب است
مازنلکم یار غزل کو بعض شعارات ہیں
مازنلکم ترک و زملکلہ زون عزم زین و چاکرو چم منزہ ماکر کرست
علاء الدین بزرگ نوی با اختصار نہ وفات مشتمل شیخ مند پیر بخت سیمی بھی ایک ہو ہماری کرامہ کی طلاقات ہو نیکا مبکو شہرت نہیں بلکہ جناب شیخ صلح الدین عمار خلیفہ و فرزند شیخ بہاء الدین ذکر یا المساںی او مشتمل سلسلہ اسٹیپیں ہو اخوند تھا حضرت خواجہ خواجہ جنگلخان خواصہ غریب نواز اجمیری ای اور رائے خلیفہ حضرت قطب الدین قطب الدین بن سعید کی علیک السلام کی ایک بھائی کا اور اس طرز اس طرز ایک بھائی کا اور اول شاداون کے خلقیاً شیخ بہاء الدین ناٹسوی ح او رسید علی حمد علی الدین جبار ح شیخ ناطق الدین اولیاً بجوب ای کا او مشتمل سلسلہ اسٹیپیں ایک ای اس طرز حضرت خواجہ عارف یوگری خلیفہ حضرت خواجہ عبدالخانی عجبد والی اور ایک خلیفہ خبنا محمد و احمد فیضسوی ح کا اور ایک خلیفہ جابر ح علی خرم زبان رہنی کی کم عمری کا۔

دو ماکی تصانیف ایک تصانیف سے ایک تماشہ ہو ہے ایک فیلم مانیڈیشن ایک خلود کا جو عجائب ہے وہ تما معین اللہ بن پروادھا حاجی کے نام ہے تھے دوسرا دیوان تیری غزوی۔

مولانا کادر بیان دیوان ہے ایک ایسی نیادہ شعائر ہے میں یہ ای غریبی کا بودھ ہے جو کفر حشر غیر شیخ تبریزی کی فتویٰ میں ای بعض شیخ صلح الدین نہ کوب کے نہ ہوتی ہے ای تهدیں دنکو اپنے صاحب احرار و سلطان میں لدیں ای کتاب کی میثیت سوچنی کیا شاہنخنہ یوچین تکریباً ۳۰ ہزار شعروں میں نہ ہے جبکہ میں طبع جواہر اور صاف دیوان میں کچھ کلمات مطبع نوکشوشی میں جیسا کہ جو جو سماں کا نام کھلپت ہے شیخ زبان امام طبع ہے کہا جو دفعہ ان تصنیف کا واقعہ ہے کہ حضرت کمال الدین جنبدی را پکے دادا پیر جو شیخ تبریزی کو پڑھتے اپنے مرد و خود کو پکشی کا حکم دیا تھا جسکی تفصیلی کیفیت چھمن جست مولانا ساتھیاں عوچی ہی کہ دیوان پرست فارغ ہو کر باہر کو تو فخر الدین عراقی نے جو اپنے حجہ اور حجہاں سے بطور دلائل منکشف ہے میں

نظر کر کرہا شیر کی اوپر سلیم تبرزی کی گہر کہ مجھ کو اسکے انہار کا یاد رہی سچ پروردش نہ اخاد فرمائی اس تبرزی کی جگہ خدا تعالیٰ کیں ہے اسی
یعنی مرد چنایت فرمائیا گا جو معارف و حبائی الہیں واغیرہ تیرے نام سُنْنِ قلم کو کاظم کر جگا۔ اسی بنا پر تبرزی و میں ہم کو مولا ناکو مرد کیا
مولانا زاد بیان کا دیوان اونکتے نام تضییف کیا۔ اور ہر غول کی مقطوبہ میں محلش سکھ لکھ کر کاش کیا جو بے کنام صنف کی تبدیلی میں ہی
بیشین گولی کو خلی ہو وہ مطبع کی جانب سے اتنی بڑی طلبی کا ہوا تھا اسی لمحہ تبرزی کی موجودہ طرز کلام سے صاف لکھا ہو کہ تبرزی کا مقصود
نہیں ہے بلکہ انہی کی معتقد کا جیسا کہ ۷ پرین میریہ میں در من در وسیع فاٹ گویم این سخن غرس میں وفادے من
ع خلام تبرزی ملند وار می گردیم + علاوہ اسکی متعدد شعرات اسی میں کفر بخوبی معمون کو مولانا کی طرف منتسب کافیں سچ علی چھین
ایں جو اپنے خلیل شدید وست کو گفت میں ہو تو خوشنام مادر گیر + میر شعر علی چھین کا یہو + میر بزرگ آغا فرمیم این پر وہ بیان کیا وہ یہم
مولانا جنہیں بیکنے ای گزار شعر کا کلام مل جاتا بند شفی نہ رکت ہمیں لکھا ہو سو رجھا جانا ہی لکھن اسیں سخن مصلح و مدائی فعلی کے سور و گلزار اور جو
و خروش نام کو ہی نہیں ہے جو نامہ اخوری رخاقان عمد الواسع جلی علی چھیر خارابی سوو۔ بعد سلام کا کلام موجود ہے جنہیں کہیں
جو شرح جذبات کا نامہ ہی نہیں ہے البتہ حکیم سائی ارشیع الدین الحیرابوسیدا و خواجه فرمادین عطار کا کلام میں جو شرح جذبات کا پتہ
لکھا ہو گروہ غولیہن نہیں ہے بیانی یا افسوسیات ہیں۔ مولانا ہی سب سے پہلے ایک شخص ہے جنہوں نے خول کو تبریزی میں کوئی لف کا انظر کیا ای
اسکر علاوہ ایک دیوان میں کسی لمیریا باوشاہ کی خانہ میں کوئی تصدید نہیں ہے جی حالانکہ دوسرے بزرگ سعدی شیرازی اور خواجہ عراقی کا کلام ہی
اسی نتھیں ہے لکھنے میں ہر کمی پر ری خزل کیستق نگئے رائیک ہی حال میں مستغق ہوئی تر مختلف صفاتیں جو بیساکہ اور شعر کا مذاق ہو آئیں کی خزانہ میں
مطلق نہیں ہو اسی سے صاف سنتی اور جنودی تجھیتی ہے جیسا کہ خول کا شعر کا مذاق ہو آئیں کی خزانہ میں

چونا ز شام کر من بدر جان و خونی	منز و خیال ای سے غررو نو صد و خلافی	چونا ز شام کر من بدر جان و خونی	و سخیم ہوند چور و رسکا دا
مجھما ناز شستان بکو دستیں این	کہ نہ ادا ذرا فانہ شناسدا او مکانے	مجھما پورہ خوندم چونا تم زبا	عجمدار کو ہوت ست این عجمہ چہرام
در حق چکو نہ کو پک کہ نہ دست ندوں	ولان دست پون تو بر دی بکھاف دلما	کہ تمام خدد کو جو کہ امام شد فلانے	بکھا خبر نہارم چونا می گذارم
ما دان اند را و جان اند استیم	غلاغلے اند رجاں اند اختم	پوست را پیشیں لکھن بختیم	من کی آن برگز نہ نہ را
خنک اقبال سعادت تا ابد	از زمین تا آسمان اند اختم	جلد دنائیں اان اند اختم	ججہ قو دستار و علم فیل و فیل
از کمال شوق تیر معرفت	رہت کر دہ پر شان اند اختم	ظاہر آن قلبر زیبا شدم	پا ز از پتی سو سے بالا شدم
آشتائی دشتم ز انسو کی جان	بادر انجام کا دم آنجا شدم	از دوں گجد شتم و بیتا شدم	چار بودم شدوم کنون دوم
چاہل ان مر وزرا فر کشند	من پنقدا مر وزرا فر کشدم	ساکنان قدس سا بحمد شدم	سانکھان را درا سحر مشدوم
کہ چوہین اجلکی شتم ز بان	کہ ب خاموشی جن سر کشدم	گر مر اب اور کنی کان ہم شدم	آنچہ اوصیی و مریما وہ شد
پیش نشر کا سے عشق ام زل	ز حکم شتم صد و دو مر کشدم	رو منور اندرا علم مر مر را	سو لاما کی بخنوی
کشته انتروں بس اعلم خدم			

مطلع تاریخ این بوداوسو سال اندشت صد و دو بود اور باعث تصنیف خواجہ سام الدین علیہ ہو جیسا کہ منقول ہے ایک شب اونکو یہ خیال کیا کہ مولانا سرکب شنونی شل شنوی منطق الطیر عطار تصنیف کرنی خواست کر دیکا اونکا پیغماں علاما پیر خاہ رہ گیا شیخ و فہرست اندیشہ شیخ چون شیرست دلہا بخت اولیا الفاظ حق اور پسر احاظی و غائبی بس باجر

اور اوسی شب پر تصنیف شروع فرمادی شروع کرنا شعر تابع بس سخن کوتاہ باید واسلام اوسی وقت لکھ دے سبھا حسب عادت جیسا جے حسام الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے وہ شعرا اونکو وکھا وہ خفت تعجب ہو کر اوس پر اسکا کا واقعہ بتانی ہے وہ جو ہر کس سوکا ذرقاً اول کے سب قرآنکو خواجہ سام الدین ہی کی نام تو مولانا فرم شروع کیا ہے مولانا اول شب پر تصنیف ذرا تو تھے وہ اخیر شب میں صاف کر کے صحیح تک ضرر نہیں ملیں کوئی نہیں تھے یہاں تک کہ ذرقاً اول کے بعد تھے مولانا ایسی اونکی زوجہ فرم عقل کا دو خانہ داری کی خصوصیتیں پس کو اونکو خواجہ تصنیف کی تصنیف بند ہو گئی جبکہ سال کی بعد وہ خانہ البال ہو گئی تو انہوں نے یہ مولانا تصنیف کے اصر کیا اور مولانا فرم شروع کیا ۵

مَرَأَنْ شَنُونِي تَاخِرَتْهُ	مَهْلَكَةَ بَارِبَتْ تَاخِرَنْ خَيْرَتْهُ
چُونْ بَرْجَ حَفَالِي فَرَسْتُو	بَيْهَارِشْ غَنْجَهَةَ شَكْلَهَةَ بُو

شنونی کا ذرقہ ختم چھوڑ فرمام ہو چکتے کو بعد مولانا ساخت علیل ہو گئی اور ساتوں ذرقے کے باہر آپ نے فرمایا کہ ۵

درول ہر کس کے باشد نو جان باقی این لفظتہ آیدے بے گمان بعض کا بیان ہے کہ اس بجا ری ہر نہ جانب برداشت کی وجہ سے ساتوں ذرقہ تصنیف نہ ہو سکا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مولانا مدد و سوت ہو گئی انہوں نے خود ساتوں ذرقہ تصنیف فرمایا جبکا آغاز یہ ہے ۵ اس نیا الحق حسام الدین حید دو لمحت پانیدہ عمرت پر مولید چونکہ از جین ششم کر دی گئد اور فراز چرخہ ختم کی سفر سعادت ہفت ہفت سوت پہ شنونی کی تعریف متأخرین ذرقہ بیان تھے خود شنونی اور اونکو مصنف کی تصحیف کی ہے ۵

مِنْ چَوْ كِوْمِ صَفَانْ حَلَّاجَةَ	النَّطَرُ وَنَاطِمَ كَهْ حَنِّ حَمَّهَا
شَنُونِي مَوْلُوْيِ سَنُونِ	بَرَسَتْ قَرَآنْ درِ زَبَنْ سَلِيلَكَ

اسیکہ از جینہ جانی جب ایسیکہ حق ہیں جکھما ایسیکہ بیرونی دلے دار دکان واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور اونکو مسلمتے شنونی تشریف پیش ہوئی شاد فرمائیں کہ اگرچہ معارف حقائق میں آج تک بہت سی کتابیں تصنیف کی گئیں لیکن اونکی شنونی کو شامل لکی بھی نہیں ہے سو باخ

أَصْنَافَتْ حَذْنُونِي الرَّسُولُ	فِي هَذِهِ الْمُتَكَبِّرِ وَهُوَ يَقُولُ
-----------------------------------	--

اسیکہ ابھوت خذنونی الرسول فی هذہ المتكبّر و هو یقول ایسیکہ کتبہ کم معنی ایسیکہ کتاب المتنونی اس خواب کی تصدیق میں یہ امر کافی ہے کہ وقت تک اس کتاب کو سلطان اللہ کی کتبے صدماں بکھر ہزار ہاؤ اومی اولیا کہا رسکو گلو اگر کوئی شخص اسی ضمون میں بطریق اقبا اس شنونی تشریف کی شعاع نقل کر دیا ہو تو اونکی جان پڑ جائی ہو و مظلوم و عظم میں شنونی کی شعاع سوتا ہر مدد ایسا ہے اسیکے سو مردہ ول زندہ ہو جائیں اس کا سب سلما و فضل ای جسد ای اعتناء کیا ہر کسی اور فارسی کتاب پر ہنین کیا بہت سی لفاظ اور سند کتاب میں مثل غاہنا سہ فرد و سی وحدۃ مکہم سائی منطق الطیر و اکھی نامہ و اہم زمامہ خواجہ فرمادیں عطار و گلستان

بے مثال شیخ سعدی شیرازی موجود ہیں لیکن مذنوی کی قبولت کے ساتھ کچھ بہت نہیں ہے۔
مذنوی کی شریعت مذنوی خلیف کی جبقدر فخر ہیں لیکن کسی اضافی کتاب پر کی نہیں لیکن کچھ بہت نہیں شرح کے نام ہیں۔

نام شرح و مصنف	نام شرح و مصنف	نام شرح و مصنف	نام شرح و مصنف	نام شرح و مصنف
۱ شرح مذنوی رسور کوہ المعنی	۱۰ شرح شیخ عبد الجبار سید اسی	۲۰ شرح شیخ عبد الجبار سید اسی	۳۰ شرح شیخ عبد الجبار سید اسی	۴۰ شرح شیخ عبد الجبار سید اسی
۲ بحصہ شیخ مذنوی حاصل الدین بن عطاء	۱۱ شناہ محمد حنفی الہماہادی	۲۱ شناہ محمد حنفی الہماہادی	۳۱ شناہ محمد حنفی الہماہادی	۴۱ شناہ محمد حنفی الہماہادی
۳ بعض اعلیٰ مذنوی لاناجاہی فقیر بندی	۲۲ رسولان محمد رضا ہبھوری سیدوردی	۳۲ رسولان محمد رضا ہبھوری سیدوردی	۴۲ رسولان محمد رضا ہبھوری سیدوردی	۵۲ رسولان محمد رضا ہبھوری سیدوردی
۴ مولی مصطفیٰ بن شعبان ہجۃ	۳۳ ابو قاسم عاصمہ الشیوخ محمد بن الحنفی	۴۳ ابو قاسم عاصمہ الشیوخ محمد بن الحنفی	۵۳ ابو قاسم عاصمہ الشیوخ محمد بن الحنفی	۶۳ ابو قاسم عاصمہ الشیوخ محمد بن الحنفی
۵ شرح سودی	۷۰ ابو علی الحسن بن حسین بن حسن	۸۰ ابو علی الحسن بن حسین بن حسن	۹۰ ابو علی الحسن بن حسین بن حسن	۱۰۰ ابو علی الحسن بن حسین بن حسن
۶ جواہر الامال حسین بن حسن	۷۱ شرح کمال الدین خوارزمی	۸۱ شرح کمال الدین خوارزمی	۹۱ شرح کمال الدین خوارزمی	۱۰۱ شرح کمال الدین خوارزمی
۷ شرح کمال الدین خوارزمی	۷۲ شرح ابریل الفرقوی و جلد میں	۸۲ شرح ابریل الفرقوی و جلد میں	۹۲ شرح ابریل الفرقوی و جلد میں	۱۰۲ شرح ابریل الفرقوی و جلد میں
۸ شرح ابریل الفرقوی و جلد میں	۷۳ شرح ابریل الفرقوی و جلد میں	۸۳ شرح ابریل الفرقوی و جلد میں	۹۳ شرح ابریل الفرقوی و جلد میں	۱۰۳ شرح ابریل الفرقوی و جلد میں
۹ شرح اسماعیل قیری	۷۴ شرح اسماعیل قیری	۸۴ شرح اسماعیل قیری	۹۴ شرح اسماعیل قیری	۱۰۴ شرح اسماعیل قیری

مذنوی پا افراد اور کھانا۔ مذنوی خلیف کی قیامتی دوڑا ہو در باتات کو باوجود جملہ اپر اور اپنے کے بغیر مدد کو حکم کو عجب یاد رکھنے نظر

اسے مذنوی خلیف کی تدقیقی شاخ میں کچھ کوئی نہیں اسکتی ہے شخص چراخ را کہا ایزد بر من دروز ہر انکو بیٹھ دن کشیش پیزو و

چنانچہ مذنوی خلیف میں ایک شکم پر والدہ حضرت سعیدی والدہ حضرت عیسیٰ کا بھالت حل ہم طلاقات کرنا اور دو توہجہ نکاحات حل میں ایک شکم

کو والدہ کو سجدہ کرنے کا وائد نہ کوئی ہے مذنوی مادی کمی جو حامل بُدازو بُدو با مریمہ شستہ رور و

اسکو رسولان کو بعض بھروسے کہا تھا کہ نہ اپنے قیاس ہے مذنوی ایمان کو نہایاں افساد را حکم کش نہ رہ اور وہ نہ سمجھتا

زائد مرید وقت بخیع حل نوش بُدو از بیگانہ دور وہ زخویں مادی کمی کجا وہ کیش کہ مٹا کو نہیں اور اہن سخن درجا جا

اپنے اسکا بہت عدل ہو جائیا ہو کہ حارہ مقصد قصہ سے صرف دس کا تجویز ہو اگرچہ ان دونوں بظاہر طلاقات جہاں مذنوی ہوئی گروہ کوئی

باطن ہو اونکی اور قسم کی طلاقات ہو کارن جوں ہوں افلاہ و حقت نہیں ہو کرتے وہ زبردن فذر و عن از کھابت گیریں ڈا بون

کے برادر قصہ جن جانہ ایسیت معنی اندر وہی مسانی ایسیت داد کمی کیسی دم و مغل اشکنہ پیانہ لگ کفت تھسل

کفت نجیی رئین عکھری افقن ضر کفت چونش کرد بھرے آج بگلادہ اور اپنے دھرم جوں غلام

کفت اسیں جانہ معسی بیو و کند مشنی شاہ کی جانہ ایسیت عمر و زیادہ اور بہل عراب سمت ساز گر در غشت آن تو باہم اپنے

ایک قسمی صاحبیت مذنوی خلیف کیا اسکے حمد مذنوی کہنے شرع کی اتحاد مولنا اذکو مخاطب کر کے اس ایجاد فرمائے ہیں ۵

لے سکنے لپک مہمند متوی حکومر او گولی مذنوی لے جان افسانہ باشندہ آنچھیں ریغش آنچھیں

شنبوی مارکان وحدت است	وحدت اند وحدت اندر وحدت۔ ایک شخص کو رباطن بنوی کو شبوی کہا جتا تو کبھی نہیں		
کبھی اے کر خود تو آن راشبوی مر مر افسانہ می پیدا شد	لے سکے طاعن تو جو علیمنی ایں مارکان خیرت کو زخمی یا زخمی قهر او ایمان بری	طبع قرآن را بر و نشوی میکنی ایں مارکان خیرت کو زخمی	چون مثالش دیده چون بگوی ستخیم طعن کافری پیکا شدید
باعض صاحبوں کے لامارکان کی باتی قصویں جو جسکو تصور کے معاشر فرستھے اور ہرگز کچھ نسبت نہیں ہے			
کین چن پتے سست عینی شبوی از مقامات نہیں نامتنا	گیست گروجہت ہر اپنے جلہ ستر اسر فنا نہ است ذلت	قصہ پیغمبر سنت پیر وی پا پا یہ تاملات خدا۔	کہ دو انداد ایماں مونکہ کو رکانہ قصہ بیر ون و در و
مولانا مولانا بھجوں ہوا کو کھارہ مساقعین ذوقان شریف یہی اسی قسم کی اعیر ختمات کی تھی کہ ماہذ الکاظم اس طاطیز اکاولین میں			
چون کتاب پر بیان مریم بران ذکر کوئی قصہ کجہ و دھماکہ فیل ذکر کوئی قصہ کجہ و دھماکہ فیل شبوی کی تعریض	کہ اس طبقت و فہمان خدا نہیں نسبت نیمی و سکھیتے بلکہ ذکر کوئی قصہ کجہ و دھماکہ فیل ذکر کوئی قصہ کجہ و دھماکہ فیل	اجنبین ملعش زمان کا دن ذکر کوئی قصہ کجہ و دھماکہ فیل ذکر کوئی قصہ کجہ و دھماکہ فیل	ذکر کوئی قصہ کجہ و دھماکہ فیل ذکر کوئی قصہ کجہ و دھماکہ فیل ذکر کوئی قصہ کجہ و دھماکہ فیل
ایں کلام حسو فیان شوم نیت حقیقیں کلام حسو فیان شوم نیت	شبوی سولوی رو میست در تعرف می شود شیرین کلام	ذکر کوئی قصہ کجہ و دھماکہ فیل ذکر کوئی قصہ کجہ و دھماکہ فیل	ذکر کوئی قصہ کجہ و دھماکہ فیل ذکر کوئی قصہ کجہ و دھماکہ فیل
مولانا کل جواب حکیم بیرون امام سید علی الحسینی الشوری تخلص بر طبعی المخاطب پر سلطان العدل اذیله دلساں الکافر مارہن میں			
عارف باہر مولانا کے رو فم اہل اطن می شناشد نور دل	کر لفڑی کلام ایز دی شان مولانا است بیں عالمیا	غدر بر و مفتوج چون بالعلم لئکہ موشک در من کا پتھل	ہم صویٹ مصلطفہ در شبوی شتوی ایمان طوبی وہلام
مولانا کافیں معترض اور محیب و دو صاحب اجنبی خجالات کا ایک افادہ کہ صحن مولانا شبوی خلیفہ فرمائی گو ہیں			
دیو ہمرا ابوجہل و لمبفت دیو ہمرا لقمع لمعت اسے آفت	گفت احمد مرد را کہ رہی گفت احمد رہت گفتی ایز دیز گفت من آئیہ م معموق کت	رشت لفڑی کو زہنی کا شکفت لے رشتے لے زخربے خوش رسک وہند و در من آن بیدار کا	رہت لفڑی کو جو چرا رہت لفڑی دو ضردا گو چرا
الحاصل میں مولانا اور حدیث اور الہی نامہ	دو رخواری خوشنی بین خروش مولانا میں ایک مقام بر زماں ہیں	نور خواہی مستجد نور شو نور خواہی میں	دیو ہمرا ابوجہل و لمبفت لے رشتے لے زخربے خوش
تصانیف کی توصیف و ملکیت شبوی میں ایک مقام بر زماں ہیں درالہی نامہ کو میر شریعہ ایں	وک جو شی کروہ ادم من خیر خام آن خیر عزیز و خلخال عالمیں	از خلیل عزیز نوی ایشتو تا می تباہی دلتن کنہ لے	دیو ہمرا ابوجہل و لمبفت لے رشتے لے زخربے خوش
پیغمدار اذول رہان گوش کن کلوب کشاگی زر اطمین وہ کو	جنوں اجاں سارو جان اہوش کن پیغمدار اذول نہیں	بشنوار قول نای دیکھو ز معنی تا قہقاہی کر کن	ز دو بابی سر نکلے زیدہ و در حقیقت دین صرف در کو

دو یوں میں کیا مقام فرمائے ہیں ۵ صفت غیر عرض راعظاً گرتے ماہان اندر غیر کیکے پر ایم دوسری جگہ فرمائے ہیں ۵		عطار درج بود و سنا کی وجہ سے ما از پس نالی د عطار آیم لار غور رکھیکا جا تو یہ مولانا کی کنفرسی ہر دن خود مولانا کیکہ تجزیع میں		
اوکی شتوی ہو یا نیز اپید الکار ہو اعلیٰ تو ٹننوی کر میڈا میں ان کیا بوٹین نہیں ہیں اگر گرین میں قوہاہیت مختصر اور ناتام اوڑھنی میں کامل ہیں خشوی اور حدیث کے معاہد میں کامنے لادے ۵ روح باعقل و علم و اندر گست روح باعقل و علم و اندر گست		حدیقہ میں روح کی بابہ کھاہیت روح را پارسی و نازی نیست اپنی خرون کو مولانا نتوی غیریت کو دفتر دوم میں فرمائے ہیں ۵		
روح باعلم گست و باعقل گست یا روح را باز کی ذاتی چہ کار بمحیث عقلی گرد و هر جان بود آن درگرا بشد که بحیث جان بود روح بخون صلح و تن ناقہست روح اندر و صلوتن در ناقہست ناو جسمیہ ول را بندہ باش تاشوی بر روح صالح خواہ ہاں		بجیٹ عقل حس اخودان یا سب بجیٹ جان باعجمیہ یا پاہیہ بجیٹ جان انہوں سخاہم دیگر گست باد جان را تو ایم دیگر گست روح صالح قابل آفات نیست زخم بناقہ بود و رذات نیست		
حدیقہ میں دل کی حقیقت بطریقہ بیان کیلئی میں ۵ از در پر چشم تا پر چشم دل ماغنیان باہزار و یا کہ منزل باطن فوجیقت دل نیست ہر چہ جزا طین تو باطل نیست پارہ گوشت نام دل کر دی دل کخفیق را بحمل کر دی نیست غبے کر کے دھماں خوانہ شکل صنوبہ ری را دل دل کہ باجاہ و مال دار دکار آن سکے دان وان دگر مردار		روح خود را متصل کرنے کے طلاق زو دبارو ای قدرس ساکان از درن کے صاحب کلہ است تا بد دل ہزار سالہ رہ کہتے پر و بیال حسن روز دل باشد تین بے دل جاں گل خش اصل نہل و مجاز دل نبود و دنیخ خشم و از دل نبود دل بیکے منظریت رہ باقی جھڑہ دیوراچہ دل خوانی اپنکو دل نام کروہ ہے بساز روہ پیش سکان کوی انداز		
مولانا ز دل کی ماہیت نتوی غیریت کے دفتر سوم میں اس طرح سے بیان کی ہے ۵		دو یوں دل کی ماہیت نتوی غیریت کے دفتر سوم میں اس طرح سے بیان کی ہے ۵		
در گل تیرہ یقین ستم بہت ایکہ اذان آہت نشاہی اب و آن بیٹے کرنا سماں ہا بہتر است آن دل ابدال باہمیہ بہت سرکشیدی تو کہ من صاحب دلم حاجت غیریتے نہ اور م دھلم خود را داری کیا میں دلی خدیت کہ مرد و عشق شیر و ایکھیں بس بود دل جو ہر و عالم عرض سایہ دل چون بود دل اغص آئیہ دل چون شود صافی و یا ک نقشہ اپنی برون اڑا بے غاک گر جیاں جھوتہ مگنجد و فلک نہ برس و فرش دیا و سک روزن دل گر کو وہت و صفا سیر سد بے و سطہ نور نہ کان جمال دل جمال بیسیت و مہمنی آپ میون ساقیت اڑ فر نور دل فور پڑھت اکو ز فر عقل حرس پاک چ		دل فران عرش بانشد بیہت پس ای خود را اکھو کاہیں نہ مہل پاک گشہ زان ز گل صافی شدہ در فروی امده دافی شدہ اپنخان کہ اب در گل کر شد کو منہ اب چہرے اجور ہو لطف شیر و ایکھیں عکس دل است سرخوشی ای خوش از دل اخافیک با غہا و سہرا دیور جبان ببر و عن عکس سش چو دا پیان اکھیں بیتی نقش و مہم نقاش را فرش و لستہ ما وہی فرشہ را راکہ محدود است و محدود است این آکینہ دل خود نہ اسدا جنہیں صورت بیسواری بیسے و غیب ز آئندہ دل تافت موسیٰ نماز نور نور حشم خود نور دل ایسا حال است فریشتم از نور دل ایسا حال است		

غذکنڈویک (لی) پانسری سوانان کامل جیان اصل مادے نالہ نے زرد خالی بست	شوق اردوے زرد خالی بست	معنی نورِ اعلیٰ بود این بود اوکی بیت حدائق میں اس طرح سے بیان لگائی ہے ۵
پیے زبان گوش را خبر کر دے مولانا نہنی خلیف کو ذکر اکی اسی تھون سے آغاز کیا ہے ۵	بے بیان ہوش را خبر کر دے	ما خلق خوش بست و بس بزا و خبا خود بست نے زہوا از مش علی خامی سیخ زد چ عجب گرنے آتش انگیرد

بشنوار نے چورہ حکایت میکنند ارجمند ہمایکایت میکنند الخ

حضرت نادرات شہنشی [ملنوی خلیف کو طرز بیک کی عمدگل اور صائمیں کی جائیں کیست کھلا دو اکوئن اوسمی بہت سی نادرات موجود میں جسیں مباحثت نات محفوظ
بامی خلیف تحریک - و خدا وجود - فنا وجا دریں مدعایات و حالات سلوک کی بیت روی تجد و شناو غیر و عطر کالم و منظرہ نکمت و فلسہ - سخا و پہجہ
کشش نہات مسلمان تھا وغیرہ جو فی زمانہ اپنے سارے نعمیات حدیدہ درافت کوئین جسکی تفصیل کیں تھیں تھیں گنجائش نہیں ہے۔

مشکلات تھیں شہنشی [اسکی تصنیف کے وقت بوجو تیرن مولانا کو پڑیں ہیں اونکو مخدوٹ کر کر اگر قصہ کی خوبیون پر نظر کیجائے تو مزید محاصل ہمایکے
اسکی تصنیف کے ذرا پہلے علام فخر الدین رازی کا زندگانی کا نہاد تھا جو باہشا وفت کی اوس تاد اور شیر خاص اور حکمت و علم و ادب اور سلطنت کے مقصد اور حق احادیث
سر پرست اور امام تھا زہون پیشے خیالات اور عقائد کا نہاد تھا ہر دو مشکل کامل میں صورجہونکر اتحاد بسکی ہنوز بخار و نظر صدیں گنجائیں
ہو رہی تھی اور اسکے مصروف اور تھیں کو شکن تھا اپنے اونکو تھا بامیں تردد کر کے عقائد اور تدبیریہ تھیں کا ثبوت دیا ہو جا ہو پر تقبیل ہلان پڑیا
اوہ سبی کل جو اسکی بیویہ سخت تھیں کی اکھر سخن اکبر محی الدین بی جوہ اسے علی پر تھوڑی دن بیڑاں اسے اسراہی اور معاشر ہائی کا جو اون پڑھوڑا
مشکل ہوئی تھی اپنے کلماوں کی باتیں اپنے اپنے اسراہی کا جس سخن تھا کہ جو بالستہ تھوڑی سی دو جو شیخ طوطیا اپنے کل کوٹا ہر سچوں سے اپنی کیات کئے تو ہی
چنانچہ شیخ والزم افذا امشک کہ اون تدبیریہ کوہا سے پاک بروت ہو میاں اسی طبقت شیخ شیخ شہاب الدین قبلہ بی جو رود کی (جو خلیف پاک کے مردانہ تھیں
تجھ کا عک طور پر بخدا اور نوح عراق میں گھر دیا تھا کہ لا متعین اہل اللحد اور بکشیخ فر کا وصال ہو تو اپ پتکرو کار و فرا القد مامت و بی تکلف و از
کلمہ احادیث) نامہم سمجھ عوام کا لاغام جو ہر منزد و مقام سزا آنکھا تو محض توہیں اسی شیخ اکبر کو علمہ ہو کر علی انہیں ہو گے ۵ مغل حکایت کیکنہ اس
لماںی تھوں کر اخاوت بند کن کوہیے عوم متصوفین فوجی اتحاد اور طبلہ کفر قسمی کی ناظمیں میتوں غلوسیع سے قنعت کر دہا زایل بخوبی
قلی قصیدہ پر اکتفا کر لیا ہو اور خلاف شرع خلیف کو اول و اعمال کھڑو کھاد کا نام تصور کر کر بیہوئی کو مولانا زین بنیا اسی تردد میں مختلف بحثہا تو جن مغلوں کی
حربت بانیہ کی ضمیم ہن مسلسل ای مصنوعی قال کلناہ بہت ہی بھگی سے اتیا اور فرق خاہ کر کے دکھا ہے۔ ملنوی

اکھا سبے در دیا شدر ہر لست	از لکہ بیدر وی ادا لحق کفکنست
آن اما بیدقت کفکنست	لکفت فرخ نے اکامہ کشت پست
آئیں اما لعنة اکھر در قب	لکفت منصیہ ادا لحق و بست
لا جو م مرغ بیہ کلام را اسری دین لازم است اسلام دا	آن اما منصور حست شد یقین
تو اقارب سی گوئی دام غافل بازہ صیحت این ہر دوہا	ذرا تھاد نور زرا جو سلوں
کن لامے بر تو سے سگ غور بود مرحق کا دو لپٹ فنستوم بود	از اما سے پر لپٹ پر عما

حالات حضرت خواجہ درویش محمد نقشبندی حجۃۃ الشریعۃ
جنون کے شنوی شریف کا داتخانہ سو بیب بابا

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حالاً و مصلیاً

آپ کا نام نامی خواجہ درویش محمد ولدیت مولانا و سنت محمد بن جاری مقام و الدوت شہر کوئٹہ تواریخ
بنگارا ہے آپ حضرت شیخ عبدالخان عویض خجداوی خلیفہ اکبر حضرت خواجہ خواجہ کان محمد بہار الدین
نقشبند قدس سرہ العزیز کے حقیقی نواسے اور حضرت مولانا محمد زادہ خلیفہ عنصر حضرت
ناصر الدین محمد خواجہ صبیر الدین احمد رازی قدس سرہ العزیز کے بہانجے ہیں۔ آپ بعد تحصیل علوم
حضر و پڑا اپنے شعر سے عبادت و ریاست میں مشغول اور تفرید و تحریر میں زمانی بہر
کرنے تھے۔ اسی طرح سے آپ پندرہ سال تک پابند رہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ فی
روز تک کچھہ خور و نوش کیلئے میراث آیا اور بہوک کی بیباں سے زمام صہرا تھہ سے چانے لگی
آپ نے آسمان کی طرف سراوٹھا کر نظر کی فوراً ہی حضرت خضر علیہ السلام تشریعت لائے
اور آپ سے فرمایا کہ اگر آپ تعلیم صہرا و قناعت چاہتے ہیں تو مولانا زادہ (محمد ع)

کی خدمت میں جا کر حاصل کرو۔ آپ حسبہ مولانا کے مرید ہو گئے اور انکی خدمت باپکرت
 حاضر کر سکوں اور معاشرت کی بھیں کی اور شرف خلافت سے سرفرازی پائی۔ کمال
 تقویٰ اور زہد و راضحت میں آپ کے وفات مورث تھے۔ آپ کی نسبت نہایت قویٰ
 اور عالیٰ تھی مگر بہتر کہ دستور بزرگان خاندان علیہ طریقہ نقشبندیہ کا ہے آپ بھی نہایت
 ہمی گنائی اور مخفی الحادی کے ساتھ بچپن کو قرآن شریف پڑا کر زندگی سبک کیا رکھتے تھے
 اپنے ااغ آپ کی شہرت کا یہ سبب پیش آیا کہ ایک کمی بزرگ کا آپ کے وطن میں گزرا
 اونہوں نے آپ نے کشف باطنی سے آپ کی کرامات اور نسبت نامیہ کے مقامات کا
 اور اک کیا اور کہا کہ یہاں کوئی صاحب اولیاء رکار میں سے ہیں تلاش کرنا چاہیے یہ
 کہ ہر جتو شروع کی جستوف سے نسبت کیا اثر محسوس ہوتا تھا اور سطوف پہلے جتنی کہ آپ
 میں میں اسی اور دو نوں پس میں راز و نیاز کی گفتگو کی۔ لوگوں کو اس کا علم ہوا اور سعید
 چرپا ہو گیا۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد ووسر و تھجیہ پیش آیا کہ شیخ نور الدین خوانی
 آپ کے وطن میں آئے آپ انکی ملاقات کیلئے اپنے معمولی پویلہا میں تشریف لیں گے
 دو نوں نے درستک بامعاشرت کیا اور آپ میں مراقب ہوئے بعلاقہ مخصوص ہوئے
 تو انہوں نے کہی قدر تک آپ کی مشایعت کی اور موربانہ آپ کو خصت کیا۔ جب آپ
 وہاں سے تشریف لے آئے تو انہوں نے حاضرین سے دریافت کیا کہ آپ کی خدمت
 میں بہت سے طالبان خدا اکتساب فیضان باطنی فرمائے کیلئے آتے ہو گئے لوگوں نے
 عرض کیا کہ یہ صاحب کوئی بزرگ اور شیخ نہیں ہیں ان ایک معمولی آدمی ہیں اور بچوں نکو کلام الفرقہ
 پڑا کر سب رواقات کیا کر رہے ہیں۔ پسکر شیخ نور الدین خوانی کو کمال تعجب ہوا اور حیرت
 فرمایا کہ یہاں کے آدمی نہایت ہی کھوب باطن اور ناقدر شناس ہیں کہ ایسے کامل و مکمل شیخ

اولیا ر وقت کے فیضان سے محروم ہیں۔ اسکے بعد عام طور پر لوگونا تو آپ کی کمالات کا علم ملے اور
 اور بڑھتے سے جو حقیقتیں خدا تعالیٰ باری را وصدق و صفا آپ کی خدمت میں حاضر
 استفادہ کرنے لگے تیرہ و تھیں یہ گزار کہ شیخ خوارزمی کروں جو اوس زمانہ کے ایک مشہور
 نبی بزرگ تھی اور انہیں دستور تھا کہ جہاں کجھ ہیں جاتے تھے وہاں کے اولیا را سن کی کہتے
 اور سب اپنی نسبت تو پر سے سلب کر لیتے تھے اتفاقاً آپ کے وطن ہیں بھی آنکھیں اور جہاں
 اور وہن کی کرامات سلب کرنے کے وہاں جا کر خود اپنی نسبت کو گم نہیں پایا اور بالکل خال اور
 مغراہو گئے مہچید کو مشترش کی ساتھ را قبہ کیا مگر نسبت پر یاد ہوئی جس سے نہایت درجہ
 و وحیان و پریشان ہو گئے اور عالمت اپنے ہوتے لگی لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کوئی
 زبردست بزرگ ہیں لوگوں نے آپ کا نام بتایا تو وہ آپ کی مانعیت کیلئے نکلے جوں جوں وہ آپ کے
 نزدیک پہنچتے تھے اس بست کا افرز یا محسوس ہوتا تھا جتنی کہ وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو
 پہنچتے سے بالکل غالی ہو گئے اس سکاونکو قیمین ہو گیا کہ اپنی بزرگ کے تصریح
 نسبت سلب ہو گئی پھر تو انہوں نے بہت مشت سماجت کی اور کہا کہ مجھ کو معلوم نہ تھا
 یہ اقلیم آپ کے زیر ولایت ہے اسکے بعد بہت خوشامد کی تو آپ نے اونٹے چہرے لیا کہ
 آئندہ وہ کسی بزرگ کے ساتھ ہی حرکت نہ کریں گے۔ اپنی نسبت و کرمت اونکو
 واپس دیتی اور وہ اس نے کا حکم دیا وہ جہاں سے آئے تھے فی الفور وہاں کو دے آپ
 ہو گئے۔ ثنوی معنوی حضرت مولانا رومی قدس سرہ السامی کی تعلیم حضرت صفت سے
 لیکر کیے بعد دیکھے آپ کے بزرگوں میں مصلحتی آتی تھی کہ آپ کو بھی پہنچی اور آپ کمال
 ذوق و شوق کیسا نہ ہے ثنوی شریف کے مطابعہ میں محرر ہے تھے آپ نے بہ اجازت ہائی
 حضرت صفت اور بتائیہ رومی خواجہ خواجہ محمد بہار الدین نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہ

غنوی شریف کا بابواری انتخاب موسوہ بہب لباب فرمایا اوسکی تفصیل کی بیانات مسالہ فاری
مشمولہ ہذا کے معانی سے واضح ہو گی جب عالم رویا میں یہ بہب لباب حضرت مولانا کے
ملاحظہ میں پیش ہوا تو آپ نے میر فراز کے ارشاد کیا کہ لا بہب است ہر کہ ازین انتخاب با
بعد از نماز پامداو و بابیے بعد از نماز عصہ خواہ خواند بے شک روز قیامت ہسا یہ میں درست
ہیں جسے خواہ بیافت و انواع اسرار و حقائق و معارف الہی برہے کی شوف خواہ
حہیہ الکافر قشیدہ میں زمانہ حضرت خواجہ درویش محمد قدس سرہ العزیز سے اپنکی صحیح وثای
ایک ایک باب پڑھنے کا معمول مقرر ہے سبقاً سبقاً اسکی تعلیم حاری ہے ہے بعد تکمیل کے
مندرجہ ذیل ہے فوج عفری عنہ کا آپ تک سلسلہ تصلیہ حسب ذیل ہے۔

والدی و شیخ حافظ محمد عباس علیخاں الامر وہی شیخ نے مولانا سید شاہ فخر الدین الحمد عرف کشمیر
پادشاه قادری نقشبندی الارآ بادی شیخ نے سید شاہ فخر علی نقشبندی الکاظمی شیخ نے
مولانا سید شاہ ابوالحسن النصیری آبادی شیخ نے مولانا امداد اللہ التہائی سری شیخ نے مولانا
نعمیم اللہ البزری شیخ نے شمس الدین مزا منظہر جابری خان شہید الدہلوی شیخ نے سید نور محمد
پدریونی شیخ شیخ سعید الدین السرہندی شیخ نے دوالدہ خواجہ محمد معصوم القیوم الشا
شیخ نے دوالدہ امام ربانی محمد والی ثانی القیوم الاول شیخ نے خواجہ باقی باشرکاہی
شہزادی شیخ نے خواجہ محمد ادم اکٹھی شیخ نے دوالدہ خواجہ درویش محمد بنخاری حساب
آپ نے ۱۹ محرم ۱۹۷۴ھ میں وصال فرمایا سوچنے اس فوارض نا فات سبز وار علاقہ
لکھ اور اسنہ میں آپ کا مزار بہار کے زیارت کا دخان و عامہ ہے۔

الطب الحقیر
فیض الرحمن علی قادری نقشبندی

رساله فارسي و فرهنگیت نت خاپ ب په بنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقة المتقىن والصلوة والسلام على رسوله محمد والآله وصحبة وجمعهم
آلام بعد سیکویر صدیع ایجاد ور فیش تجربین وست محمد بن خاری که یکی از خادمان کیمینه و مریدان
کیمینه حضرت معارف و شگاهی حقایق آنکه هی عارف اسرار لا ہوتی که کاشیف انوار جبر و تیه نقاده
زبدہ اخیار نواجہ عبید است احرارست که جزو مشنوی مولوی جلال الدین و می مانند بجز خارنا پیدا کن
و مثل شجره طبیبه که همچلها تماشت و تو عیا فی الشکاء از طبع شرفیش را مده و فشو و نمایافت که شر مردم طلاق
آن شدن کرد و دین بجز بے پایان خود روزه لالی آبادر و درست اهوار پر آند و معنی نمود که ازین شجره
حکیم پیچینه ای امانتو انتقد چهارین کتاب بجز و کریم مولوی است تازیانیکه الہام زیانی والفق
رحمان از پرداز غیب روشناید و این غوہ حق و مشکلات از قوت شیخ کامل مرضی کمل نکشانید کنند
آن رسیدن و برگزاری آن مطلع شدن از مقوله میالات و از قبل متعاق است نیز کلین مشنوی
اکثر علمائے شریعت و عالمائین فقرانی احادیث والی ملک و حقائق و پیش فتاوی دین
و این قصیر بسیار معتبرست کلام حضرت مولوی ابطیق استدلال و کتب معمدة خود را می آزد خصوصاً
زد خواجه گان فتح شنبند یور حکیم است که زد یک پیشان بسامقوی معتبرست چنانچه کفر اعزمه این پسلک است

فقیر ابا عسف می بودند که اگر ازین کتاب است طالب دُر رکور و جواہر زد و اهر برد و جهادی چانه بر اری
 بطریق اتحاب و فهرست ابواب پس خالی از فوائد شخواه بود باین سبب که سند این مشنوی
 ابا عن چهل از حضرت مولوی باین فقیر سیده بود تاریخ نے حضرت ایشان قدس اللہ رضوانہ
 فرز و ارشاد کر دند کے غلائی درین روز ۱۳۲۷ معتبر چیزیں کے طالعه مکنی عرض کر دمکه و
 ندارم اما گاه گها ہی مشنوی حضرت مولوی جو دیده نی شود و آن حضرت عزیزان علی معتبر منقول است
 کہ پھر مشنوی شریف را مدامت خاید و هر روز صبح و شام پاره ازین باوضو و قیدت خوانده باشد
 از جمیع آفات و لمبات آخر زمان در امان باشد و ابول پکشیت ولیقین بر و سے سفتح گزند
 حضرت ایشان باین فقیر فرمودند که کتاب مشنوی مولوی بسیار طول دارد اگر تو ازین کتاب انتساب
 کنی بہر خاص و عام فائدہ تمام خواهد رسید و سوچ پر فتح حضرت مولوی از تو شاد خواهد گردید چون این
 بند و ظاہر او باطن او منقاد ام حضرت ایشان بود ضرور حسب فرمود که جناب شان درین تردد
 افتاد و حیران بود که بعد ام طرز درین سچ فیض خویی خاید تا کو ہر آبدار در رشاد ہوار ازین در میان کے
 اسرار پیر ون آرد پھدرین اتنا در ماد دی الحجۃ اکتسع و تسعانہ شب جمعہ بود که این فقیر خواجه بزرگ
 حضرت بہا و العین نقشبند را قدس سرہ در خواب دید که تشریف آوردند و فرمودند که اے غلام خیمن
 و انتساب مشنوی مولوی را که کرده بسیار که حضرت مولوی ہم سهراه من آمدہ اند و مخواهند که اما ز
 پہ بینند گفتہ ما حضرت مدت است که من درین فکر بوده ام که انتساب بے کہنم اما من وز صورت نہ بسته حضرت
 خواجه بزرگ خود را دراز کر دند و این انتساب بدائل کیشیه من برآور دند و فرمودند که فیضت
 انتساب و سوده را پیش مولوی پر ذم حضرت مولوی آزاد دیده خوش بخندند و میسم کر ده گفتند که چنان
 ہر که ازین انتساب با پی بعد از نماز بامداد و با پی بعد از نماز حضرت خواه خواند بے شکانه روز قیامت
 همسایه من دو بیت برین جائی خواه بیافت والذاع اسرار حقائق و معارف آنی بر و سے
 مکشوف خواه دشنه بود رین حال فقیر سیدار شد مُوفن اذان بامداد کر دمن و خلو کر ده درجه
 حضرت ایشان آدم رحیل مراد پند فرمودند اے غلام حضرت خواجه بزرگ و حضرت مولوی

۷

زیارت کر دی من بر قبیل ایشان افتادم ایشان برسی بسیار اتفاقات فرموده تصریح کرد که
علوم اولین و آخرین جمله برسی روشن گردید و در آنکه حدست این اشخاص را مسعوده نموده بظاهر
ایشان هر آورده ایشان نیز دیده فرمودند که مبارک است پس سخواجہ حق کلم اثارات نیز نمکه بظاهر
فرماید که مسعوده این را بگیرند و هر دو نسبت دنایانند که هر که همیشنه صبح و شام از این ائمہ بیکاب
سخواجہ مسعوده این را باشد بعد از آن این ایام بیکاب

بـخواجـه مـسـعـودـه

پیشرا کے اہل دین وقتی
آتش و نسخ بر و گرد حرام
صاحب حکم فنا کے قن شود
گردا و از خوف حق دایم نذیر
و اکا دریا و حق او دم زند
عارف کامل شود اند رازمان
می شود از امت آن پیشوای

پیشرا فرموده ماست
سخواجہ برادر که خواجہ حق ایام
تحریک پیشرا در و شدن شد
در موارد و در حقائق پیش نظر
از حکم و زکرینه مل مصائب کند
از بیانات جهان پا پا امانت
در قیامت حشرای با ابیها

پس این فقیر اصحاب را بعینه چنانچه خواجہ بزرگ قدس سرہ از سینه من برآورده بود نعل
گرد تا هر که مطلع شد خلود نیای و آندرت پا پد و این مستند از فاتحہ فاسخ یاد نماید که لین انتظار
الخطیع از جراحت محسنهں التسلیم خطول قاریها و سامعها و ناظر این حقیقت ایات القرآن بدست فضله
بر عینک یا ارجمند

قططری خ طبع بیاناتی چه فکر جنایشا مهرو محمد امیر کبیر چهرانی فاعلیت بینی

فیصل حستان نمود که اثر احمد
عبدالباب مثنوی حمدیت ابد

حال بباب مولوی احمد حسین خان
شلیع کتاب کرد که عده کو دست بسیار

لَهُ مَنْ يَرِدُ لِي بِأَنْ يَلْبِسَ إِلَيْهِ الْمَلَكَ الْمَكْنُونَ
لَهُ مَنْ يَرِدُ لِي بِأَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ الْمَكْنُونَ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَلَامٌ لِمَنْ يَرِدُ لِي بِأَنْ يَلْبِسَ إِلَيْهِ الْمَلَكَ الْمَكْنُونَ
سَلَامٌ لِمَنْ يَرِدُ لِي بِأَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ الْمَكْنُونَ
سَلَامٌ لِمَنْ يَرِدُ لِي بِأَنْ يَلْبِسَ إِلَيْهِ الْمَلَكَ الْمَكْنُونَ
سَلَامٌ لِمَنْ يَرِدُ لِي بِأَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ الْمَكْنُونَ
سَلَامٌ لِمَنْ يَرِدُ لِي بِأَنْ يَلْبِسَ إِلَيْهِ الْمَلَكَ الْمَكْنُونَ
سَلَامٌ لِمَنْ يَرِدُ لِي بِأَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ الْمَكْنُونَ
سَلَامٌ لِمَنْ يَرِدُ لِي بِأَنْ يَلْبِسَ إِلَيْهِ الْمَلَكَ الْمَكْنُونَ
سَلَامٌ لِمَنْ يَرِدُ لِي بِأَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ الْمَكْنُونَ
سَلَامٌ لِمَنْ يَرِدُ لِي بِأَنْ يَلْبِسَ إِلَيْهِ الْمَلَكَ الْمَكْنُونَ
سَلَامٌ لِمَنْ يَرِدُ لِي بِأَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ الْمَكْنُونَ

بِرَجَلِهِ بِعْدِ مَوْلَانَهِ بَلَى حَسَنَهِ بَلَى حَسَنَهِ بَلَى حَسَنَهِ
بِعَصْبَرِهِ بَلَى حَسَنَهِ بَلَى حَسَنَهِ بَلَى حَسَنَهِ بَلَى حَسَنَهِ
بِزَمَانِهِ بَلَى حَسَنَهِ بَلَى حَسَنَهِ بَلَى حَسَنَهِ بَلَى حَسَنَهِ

سَعَةٌ تَسْعَهُ بِرَجَلِهِ بَلَى حَسَنَهِ
جَمِيعَتُ الْجَمِيعَتِ بِرَجَلِهِ بَلَى حَسَنَهِ
شَاهِيَّتُ الْمُكَفَّفِيَّتِ بِرَجَلِهِ بَلَى حَسَنَهِ
بَشَّارَيَّتُ الْمُكَفَّافِيَّتِ بِرَجَلِهِ بَلَى حَسَنَهِ
حَمْعَهُ بِرَجَلِهِ بَلَى حَسَنَهِ
بَلَى حَسَنَهِ بَلَى حَسَنَهِ بَلَى حَسَنَهِ

۹

شَاهِيَّتُ الْمُكَفَّافِيَّتِ بِرَجَلِهِ بَلَى حَسَنَهِ
طَبِيرَهِافَتُ بِرَجَلِهِ بَلَى حَسَنَهِ
أَكْبَجَمُونُهُ مُغَزِّيَّهُ بَلَى حَسَنَهِ
ازَانُ بَلَى بِهَا لَهُوَهُ بَلَى حَسَنَهِ
شَاهِيَّتُ الْمُكَفَّافِيَّتِ بِرَجَلِهِ بَلَى حَسَنَهِ
بَلَى حَسَنَهِ بَلَى بَلَى حَسَنَهِ بَلَى حَسَنَهِ
بَلَى بَلَى حَسَنَهِ بَلَى بَلَى حَسَنَهِ
بَلَى بَلَى حَسَنَهِ بَلَى بَلَى حَسَنَهِ

شَاهِيَّتُ الْمُكَفَّافِيَّتِ بِرَجَلِهِ بَلَى حَسَنَهِ

کَفَرِيَّا شَدَ غَلَمَتْ از احَادِيَّتْ
بَلَى فَضَلَ اسْعَيْسِيَّمْ بَلَى طَلَّ
بَلَى قَضَاوْ حَكْمَ آنْ سَلَطَانِيَّتْ
تَانْ كُوِيدْ لَقَهْ رَاحَتْ كَاهَذُلُو
بَلَى بَلَى بَلَى بَلَى بَلَى بَلَى بَلَى
شَرَحْ تَوَاكَرْ وَحَلَبَهِيَّ نَسِيَّتْ خَوشْ
لَشَكَرِيَّتْ كَاهِيَّا سَتَهِانْ
مَرَزَآ كَنُونْ طَيَّعَتْ از افَاقْ
وَرَقِشَمْ از تَوْ بَارَ وَصَدَوْ نَارَ
پَسْ بَهَيَّنِيَّ تَوْ زَوْ نَدانْ كَوْ شَهَالْ
تَاهِيَّنِيَّ شَكَرِتْنْ رَاعِيلْ
وَشَمِنِيَّ بَا جَاهِيَّ جَاهِيَّ آسَانِ نَسِيَّتْ
پَيشِ حَشَمْ مَاهِيَّ وَارِدَهِ
كَهْ از اَهَانْ آيَهِيَّ خَضَرِيَّتْ
هَرَكَهْ خَوْ شَهَنَاخَتْ دَيزْ دَازْ شَهَنَاخَتْ
اَندَرَامِنْ سَرَمِيَّ قَصْرِيَّ بَسَاخَتْ
سَرَقَرِمِنْ خَوَنَكَهْ فَرَسَودَتْ تَعَالَ

روَنَگِرَهْ اَنِسِمْ اَز فَرَمانِ تَوْ
حَلْيَهِشَهِيَّ مَاهَدَهْ اَشَدَهِ طَلَّ
بَسِيجْ بَرَگَيَّ شَفَقَتْ دَازْ خَاجَتْ
اَز دَهِانِ لَقَيَّهِ شَدَ سَوَمِيَّ مَلَوَهْ
درَزِمِنْ وَآسَانِهِهَا فَرَزَهَا
جَزْ بَهْرَمَانِ قَدْ قِيمْ نَافَدَشْ
جَملَهْ ذَرَاتِ زَمِنْ وَآسَانِ
جَزْ وَجَزَدَتْ لَشَكَرِيَّ اوَدَرَفَاقْ
گَرَگَبُونَهِ پَشَمَرْ اَكَورَا فَشارْ
دَرَبَدَنَدَانْ كَوِيدَهْ اوَبَهَا وَبَالْ
بَازَكَنْ طَبَهْ رَاجَخَانِ بَابُ العَللْ
چَونَكَهْ جَاهِيَّ جَاهِيَّ هَرَجَيَّهِيَّ نَسِيَّتْ
خَاكَ رَأَوْ لَظَفَرَهْ رَأَوْ لَضَغَفَهْ رَأَ
كَزَكَجَهْ آَوَرِ دَهِتْ اَهِيَّ بَنِسِيَّتْ
بَهْرَآنْ پَغَيَّهِهِمْ رَاهَ شَرَحَخَاجَتْ
اَهِيَّ خَنَكَهْ آَنِزَكَهْ دَاهِتْ خَوَشَخَاجَتْ
هِينَ رَهَاهِنْ بَدَگَاهِيَّ وَضَلَالَ

بَهْرَآنْ بَلَى بَجَوَهْ بَلَى بَجَوَهْ
بَلَى بَجَوَهْ بَلَى بَجَوَهْ بَلَى بَجَوَهْ

لهم انت علام الافق انت عالم الامانات انت عالم الامانات انت عالم الامانات

جان پیرون جان فرازیده را و
نیز بعده العالی نیز سمه عون
شک را می بینیم اند اود هد
هر چیزی را راست نفضل او کند
وارانجی را با خوبی دست بر و لطفه اش
ماهیتی دست بر و لطفه اش
از غیره هر شتری هی هن بر ترا
عالی غاز و پایان تو دست
بز حق کی باشد ای جان مشتری
گادگان فضل کاشت اشتراحتی
از خلاقت آن کریم آنرا خرید
زانکه قصدش از خریدن سودیست
قصد من از خلق احسان بود دست
بلکه تا برسند گان جو دیگر نم
پاک هم ایشان شوند و در فشان
ماز شهد دست آلو دی کند
ماکه ماور بر تو هر اند خست
هر که این حق را نداند خست

لطنهای مضر اند قدرها و
بدترین قدرش چه از هر دو گون
هر شکل را بینیم اند اود هد
آنکه هر چیزی خوش بودند
گرچه پی با خضرت او رست باش
مشتری ناست آشنا شتری
مشتری چو که جو یان تو دست
مشتری خواهی که ازوی زربی
زین و گان رشت کیشان بر ترا
کماله که همچو خلقش شنگر
دیچ قلبی پیش او مرد و دست
گفت پیز پر که حق فرموده است
من نکردم امر تا سودی کنم
من نکردم پاک از سنجش شان
آفریدم تاز من سودی کیشند
حق هزاران صنعت فن خست
پس حق حق سابق اد ماور بود

فیضت آن دیده شد
خوبی بینیم بینیم
و بینیم بینیم بینیم
و بینیم بینیم بینیم

لیل در پیشی از میتواند بسیار کم باشد
لیل در پیشی از میتواند بسیار کم باشد
لیل در پیشی از میتواند بسیار کم باشد

لایه سند پیش دکن لایه دگر ترنیه آن آفتاب روشن علم انسان خمر طغرایی است جان از و آمد نیامد او ز جان شش هشت عالم به اکرام است باد و خاک و آب و آتش بندواند آب و باد و خاک و نار پر شر ما بکسر آن غیر سر حق خیر پیش تو آن سنگ پرده ساخت پیش تو استون سجد مرده است جمله اجزای جهان پیش عوام مرده زین سویند و زان سوینده چون ازان سو شان فست سوی ما کوهها هم سخن داوودی کند باو حمال سلیمان شود ماه با احمد اشارت بین شود خاک قارون را چو ماری و کشد

جز بدان شاهزادی دادگر ریاح الاعلی ازان روئینه زن صلح عند اشر مقصد امی است سد هزاران جان و بهادرایها هزرف که نگری اقام است باد و خاک و آتش بندواند پیغمبر پاها با حق با خبر پیغمبر از حق واذ حق دین نظر پیش احمد اوضیح و ناطق است پیش احمد عاشق دل برود است مرده و پیش خدا دانم ورام خامش ایجا و انظرت گویند و آند آن عصاگرد سو ما اثر ده جو هر آهن بعنه موی کند سجر موسی را ساخته ای شود نمایه ایهم را سرین شود استرن حشائمه آید در شد
--

لایه سند پیش دکن لایه دگر
ترنیه آن آفتاب روشن
علم انسان خمر طغرایی است
جان از و آمد نیامد او ز جان
شش هشت عالم به اکرام است
باد و خاک و آب و آتش بندواند
آب و باد و خاک و نار پر شر
ما بکسر آن غیر سر حق خیر
پیش تو آن سنگ پرده ساخت
پیش تو استون سجد مرده است
جمله اجزای جهان پیش عوام
مرده زین سویند و زان سوینده
چون ازان سو شان فست سوی ما
کوهها هم سخن داوودی کند
باو حمال سلیمان شود
ماه با احمد اشارت بین شود
خاک قارون را چو ماری و کشد

لایه سند پیش دکن لایه دگر
ترنیه آن آفتاب روشن
علم انسان خمر طغرایی است
جان از و آمد نیامد او ز جان
شش هشت عالم به اکرام است
باد و خاک و آب و آتش بندواند
آب و باد و خاک و نار پر شر
ما بکسر آن غیر سر حق خیر
پیش تو آن سنگ پرده ساخت
پیش تو استون سجد مرده است
جمله اجزای جهان پیش عوام
مرده زین سویند و زان سوینده
چون ازان سو شان فست سوی ما
کوهها هم سخن داوودی کند
باو حمال سلیمان شود
ماه با احمد اشارت بین شود
خاک قارون را چو ماری و کشد

لایه سند پیش دکن لایه دگر
ترنیه آن آفتاب روشن
علم انسان خمر طغرایی است
جان از و آمد نیامد او ز جان
شش هشت عالم به اکرام است
باد و خاک و آب و آتش بندواند
آب و باد و خاک و نار پر شر
ما بکسر آن غیر سر حق خیر
پیش تو آن سنگ پرده ساخت
پیش تو استون سجد مرده است
جمله اجزای جهان پیش عوام
مرده زین سویند و زان سوینده
چون ازان سو شان فست سوی ما
کوهها هم سخن داوودی کند
باو حمال سلیمان شود
ماه با احمد اشارت بین شود
خاک قارون را چو ماری و کشد

لایه سند پیش دکن لایه دگر
ترنیه آن آفتاب روشن
علم انسان خمر طغرایی است
جان از و آمد نیامد او ز جان
شش هشت عالم به اکرام است
باد و خاک و آب و آتش بندواند
آب و باد و خاک و نار پر شر
ما بکسر آن غیر سر حق خیر
پیش تو آن سنگ پرده ساخت
پیش تو استون سجد مرده است
جمله اجزای جهان پیش عوام
مرده زین سویند و زان سوینده
چون ازان سو شان فست سوی ما
کوهها هم سخن داوودی کند
باو حمال سلیمان شود
ماه با احمد اشارت بین شود
خاک قارون را چو ماری و کشد

لایه سند پیش دکن لایه دگر
ترنیه آن آفتاب روشن
علم انسان خمر طغرایی است
جان از و آمد نیامد او ز جان
شش هشت عالم به اکرام است
باد و خاک و آب و آتش بندواند
آب و باد و خاک و نار پر شر
ما بکسر آن غیر سر حق خیر
پیش تو آن سنگ پرده ساخت
پیش تو استون سجد مرده است
جمله اجزای جهان پیش عوام
مرده زین سویند و زان سوینده
چون ازان سو شان فست سوی ما
کوهها هم سخن داوودی کند
باو حمال سلیمان شود
ماه با احمد اشارت بین شود
خاک قارون را چو ماری و کشد

لهم انت السلام
لهم انت على كل مخلق
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل

لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل

لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل

لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل

لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل

لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل

لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل

لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل

لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل

لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل

لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل
لهم انت عز وجل

کوه سجی را پیامی می کند
با شهادت محرمان مان خوشیم
محمد جان جمادی چون شوید
غلغل اجزایی عالم بشنوید
گه خبر خیر آوردم که شوم و شر
من چوتون غافل زشاد خود کشیم
فرق کی کردی میان قوم عاد
چون همیدانست می از کرد
فرق چون میکرد اندرون قوم عاد
هر دو سرت اندند از خمر حق
آب را دیدی که با طوفان چه کرد
از چپ بی راز سبیلی می گزید
اہ موسی را قطبی واشناخت
با زر و ختش بقعه خود کشید
خشی قارون را چو فران در سید
نور موسی دید موسی را ناخت
حصف کرد اندر هلاک هر دعی
نمک بوش خاک حق چه خوانده است
کو مرائب گشته خامش ماده است

منگ بر احمدسلامی می کند
ما سعیم و بصیرم خوشیم
چون شهادت می جمادی میر وید
از جمادی عالم جانها روید
با او گوید پس کم از شاهد شه
زانکه ما موردم ایسر خود نیم
با درایی حشرم اگر بینش نداش
چون همیدانست موسی از عدو
گزشودی واقعه از حق جان با
با داشت شمشود از امر حق
با درایدی که با عاد آن چه کرد
گزشودی خیل را آن نوزدید
محاج دریا چون با امر حق تناخت
خاک قارون را چو فران در سید
نور موسی دید موسی را ناخت
حصف کرد اندر هلاک هر دعی
نمک بوش خاک حق چه خوانده است

رین چشمی می خورد و پیش
بینه چشمی می خورد و پیش

آتش ابراهیم را ندان نزد
 پیش حق آتش همیشه در عیام
 آتش نزود را گرچه شنید
 سنگ پر آهن زلی بیرون جهد
 پرورد آتش ابراهیم را
 ای خرد بر شس تو پیرو بالهای
 در قیامت این زمین بانیک و بد
 گرمه کوه و سنگ با دیدار شد
 این زمین را گرنه نبودی حشم حیان
 گرنه نبودی حشم حیان حتایه را
 سنگ پر آهن گرنه نبودی دیده و بر
 بر عدم ها کان ندارد حشم و گوش
 از فسون او عدم ها زود نزود
 صنع حق با جمله اجر طی سه جهان
 چند پیزادان با اثرها و سبب
 گفت در گوشی گل و خندانش کرد
 گفت با جسم آینی تما جان شداد

چون گزیده حق بود چونش گزد
 آچو عاشق روز و شب پیمان مدام
 با خلیلش چون ترجم کرد نیست
 همراه حق قدم بپرون نهاد
 اینستی روح سازدیم را
 سوره برخوان زلزلت فرگزد آلهای
 کی زنادیده گواهی میدهد
 پس چرا داده درا او پا شد
 از چه قارون را فرد و آنچنان
 چون بدریدی هر چه آن فرزانه را
 چون گواهی دادی اندرشت و
 چون فسون خواندهی آید بچوش
 خوش معلق میزند سوی وجوه
 چون دم حرفت از فسون گران
 صدم تختن گوید نهان چون ملب
 گفت با سنگ و عقیق و کاشکرد
 گفت با خورشید تار خشان شدا

علیه فخر بیان

در می خور شید افتاد صد گشون
کوچوشک از دیده خود اشکان
حق گوشش ام تا کفته است
مردابی کار و بی فصلے من
کو شکر کرد روانه می کند
بهران تا در حمر رویدن بات
ماز زو ما و د پر گرد جهان
تا پر میند هر کسی حسن عمل
چونکه حشمت را بخود بینا کند
که بود دید ویت هر دم نماید
تا بهندی لب گفتار شفعت
آغیندیشی فسادی تو زیبی
که خبر نمود و حاشم و گوش را
او زعین در دنگی سند دوا
هم ز قعر حا و بکشاید و ری
جز شکسته می نگیرد نضل شا
که در آنجا پایی اشکسته بود

باز در گوشش دنگسته خوف
نمایش ابران گویا چه خواند
ورتر ده هر که او آشفته است
کل يوم گویی شان بخوان
کمترین کارش هر روز آن بود
شکری ز اصلاح سومی آهات
شکری ز احتمام سومی خاکدان
شکری از خاکدان سومی جل
علیه چو عالم را نظر پیدا کنت
از پی آن گفت حق خود را بصیر
از پی آن گفت حق خود را سمعی
از پی آن گفت حق خود را علیم
صد هزار آن سیچانه چو شمشرا
حاکست او نفعی اللهم ما یاث
و شکست پایی حق سخشنده پر می
نمی و خاطر تپر کردن نیست اه
خواجشکسته نهاد آنجار و د

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحُكْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَإِلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحُكْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَإِلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحُكْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَإِلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحُكْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَإِلَيْهِ الْمُرْسَلُونَ

چاپراش گشگان پیش زپیش
سوی اشکسته بفضل خدا
آن جمال صفت طب آشکار
گزناشد کی نماید کیمیا
ورنیفراید سریکتار مو
بی رضامی حق جوی نتوان بود
خاک رسرا انساز د آشکار
زند شاکی از بهار و راد برگ
آن غربابان راخدا طاووس کرد
درختان فران دیه "الکریم"
این چرا بند کم ببرت
حق برویانید باغ و بوستان
عالقلان را کرده قهراء و ضرمه
در شکسته از موسی بایک عصا
پیش علیسی دوش افسوس بود
پیش حرث امیش آن عار بود
یوغ درگردون ببند و شان آله
روبوی آرید کو اختر کند

چون شکسته دل شده از عالمیش
دست اشکسته برآور در دعا
کی شود چون پستی سنجور وزار
خوار می و دوستی سرها پر ملا
پیچکس در مکاب او بی امر او
گریما بان پر شود نزگ و نقو و
تماشان حق نیار و نوبه سار
در زستان شان اگر رضه داده گر
در زستان شان اگر محبوس کرد
منکران گویند خود هست این تیک
کو رمی ایشان درون دوستان
هر چادر می را کند فضلش خیر
صد هزاران نیزه فرعون را
صد هزاران طب جاینیس بود
صد هزاران دفتر اشعار بود
آن سباد و سچود و گاو سیاد
محی پرستیدا ختر می کوز کرند

لهم انت الک و بحمدک نظری عالم و نعمتی عالم و نعمتی عالم و نعمتی عالم
لهم انت الک و بحمدک نظری عالم و نعمتی عالم و نعمتی عالم و نعمتی عالم
لهم انت الک و بحمدک نظری عالم و نعمتی عالم و نعمتی عالم و نعمتی عالم
لهم انت الک و بحمدک نظری عالم و نعمتی عالم و نعمتی عالم و نعمتی عالم

لئے لکھاں ملک دل فیض
نیک نہ لازم کرنا نہیں بلکہ
لکھاں ملک دل فیض
لکھاں ملک دل فیض
لکھاں ملک دل فیض

لکھاں ملک دل فیض
لکھاں ملک دل فیض
لکھاں ملک دل فیض
لکھاں ملک دل فیض
لکھاں ملک دل فیض

می پرستید آفتاب چرخ را
آفتاب از امر حق طباخ هاست
ملک ملک است فرمان آن او
گفت حق گر ناسقی و اهل صنم
شار باش و فارغ و این کمن
عشقها واریم پاین خاک ما
کارها ایشت بر کور می آن
این فضیلت خاک رازان رو درم
با چین غالب خداوندی کسی
این همه گفتیرم لیک اندر پیچ
بی عنایات حق و خاصان حق
یاغیات لست غذیتین اندر نما
لائر غ قلب آهیت پا لکر مر
بگذران از جان ماسور القضا
تلخ تراز فرقت تو پیچ نیست
از فراق و هجر سگوی سخن
رحم بروئے کرد وی تو بدید

خواکرده جان عالی سخرا
المی باشد که گویدا و خداست
کترین سک بر دران شدیطان او
چون مراخواندی اجا بهنا کنم
آن کنم با توکه باران با چمن
زانکه افتادست در قعر رضا
که بکار راندار دیسل جان
و اکنعت پیش بی برگان نهم
چون نمی و گرنا باشد او خس
بی عنایات خد ایچ پیغم و پیچ
گر کم باشد سیاه هتش ورق
لا افتخار پائیگ حکوم و الغیت
و اصرف الشواع الذی خطا القلم
و اسرار از اخوان صفا
بی پیا هست غیر پیچ فیت
هر چی خواهی کن و لیکن این کنم
فرقت تلخ توجهون خواهد شد

صد هزاران مرگ تلخ ای خبر و
 تلخی هر چهار ذکور و از گماش
 برآمید و صلی تو مردن خوست
 حرص اندر عشق تو فخرست و جاه
 یا الہی مسکراش ای ای ای ای
 یا خفیتاً قد ملا کت آنچه فقیئین
 افت سرگ کاشفت اسکرا نما
 یا خفی الدافت محکم گوئی لاعطا
 افت کا لری شج و سخن کا لغایار
 تو بهاری ماچو با غ سبز خوش
 تو چو جانی ما مشال دست و پا
 تو چو عقلی ما مشال این زبان
 ای بروون از وهم و قالو قیلین
 رینما ای ای ای ای ای ای ای ای
 دستگیر از دست ما ما را جس
 این دعا هم گش بش تعلیم
 ماجو چپ گیم و تو زخمہ میز نم

نیست مانند فراق رویے تو
 دور دار ای مجرماز استفات
 تلخی هر چهار ذکور و از گماش
 حدص اندر غیر تو نگاہ و تباہ
 فاعف عن اثقلت آواز از نما
 قد علوت تو ق تو ق تو ق تو ق
 افت فجر و ام فجر و افسا ر نما
 افت کا لمای و سخن کا لر کما
 یکشیخی ای ای ای ای ای ای ای
 او نهان و آشکار ای ای ای ای
 قبض و بسط دست از جان شد
 این زبان از عقلی ای ای ای ای
 خاک بر فرق من و شیل من
 حستی کن ای حیمه هات زفت
 پر ده را پر دار و پر داده
 درند ورگلخن گلستان از چهارش
 زار ای ای ای ای ای ای ای ای

ماچو کو ہیم و صدا در ماست
 بُرُود ماتِ ما راست ای خوش حفا
 ماکه با شمرتا تو با شی در میان
 توجو دلیق فان نما
 حمله شان از پاد باشد و مبدع
 آنکه ناپید است هرگز گئم باو
 هستی با جمله از ایجا داشت
 عاشق خود کرده بودی نیست
 بُقل و باده جام خود را و اگر
 نقش با ایش چون نبر و کند
 اندر کار او و سخا ای خود نگر
 لطف تو مانگنه ما می شد و
 رستن از بیداری ای رب داد
 تا بدین بس عیب ما پوشیده
 متصل گردان هر یا یا می خوش
 گنج احسان بر بجه بکش ده
 گفت ایز و مارکیت ایز رست

ما چون اسم و نوا در ما ز شست
 ما چو شطرنج بسیر اندر بُرود مات
 ماکه با شیم ای تو ماراجان جان
 ماعد مها ایم و هستیها می ما
 شه ما هشیران ولی شیر عالم
 حمایشان پیدا و ناپید است باو
 باو ما و برو ما ز دا و تست
 لذت هستی نمودی نیست را
 لذت انعام خود را و اگر
 در گیری کیست جست و جو کند
 منگراندر ما کمن در مانظر
 مانجودیم و تقاضاها باش نبو د
 این طلب در ما هم از ایجا داشت
 این قدر ارشاد تو بخششیده
 قطه داش که بخشیده زیش
 بی طلب تو این طلب بنهاده
 تو ز قرآن باز جو قفسیر بست

فلم کجا و فلم ایشان
 بیلکن بز بیلکن
 بیلکن بیلکن بیلکن
 بیلکن بیلکن بیلکن

دل نموده بیلکن بیلکن
 بیلکن بیلکن بیلکن